

Paragraph 1

تندرستی بڑی نعمت ہے۔ لیکن آدمی جب تک تندرست رہتا ہے اس نعمت کی قدر نہیں کرتا۔ جب کوئی معمولی بیماری بھی اسے آکر گھیر لے تو اس کی قدر معلوم ہو جاتی ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو جاتی ہے تو سارا جسم اثر قبول کرتا ہے۔ تندرستی ہو تو کھانے پینے، چلنے پھرنے اور کام کرنے میں جی لگتا ہے۔ صحت خراب ہو جائے تو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا جو لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں ان کی زندگی خود ان کے اور ان کے دوسرے متعلقین کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔

English Translation:

14/10/2022

Translation

Health is a huge blessing. The man does not give value to blessing, until he is healthy. When any ordinary disease can be know. If any part of organ of body is hurting, then its importance is realized.

its importance is realized

As well as you feel's pain. (As well done then pleasure of meal, walking and doing work are felt.)

Health is ^{any} enjoyment (in ^{has no meaning} anything). Who are mostly living in illness their life becomes headache for himself and for their families.

not satisfactory
translate word to word
need improvement
rewrite this translation 3/10
basic grammar is weak too